

SET-3

Series : SSO/1/C

کوڈ نمبر
Code No. 255/1/3

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

رول نمبر

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- آپ جانچ کر لیجئے کہ اس پرچہ میں چھپے ہوئے صفحات کی تعداد 4 ہے اور نقشوں کے صفحات کی تعداد 2 ہے۔
- پرچہ کے دائیں طرف چھپے کوڈ نمبر کو طالب علم جواب کاپی کے اوپری صفحہ پر لکھیں گے۔
- آپ جانچ لیجئے کہ پرچہ میں 22 سوال ہیں۔
- کسی سوال کا جواب لکھنا شروع کرنے سے پہلے اسکا سلسلہ نمبر کاپی میں لکھ دیجئے۔
- آپ کو سوالوں کے پرچہ کو پڑھنے کے لیے 15 منٹ کا مزید وقت دیا گیا ہے۔ پرچہ 10 بجکر 15 منٹ تک طلباء میں بانٹ دیا جائیگا۔ 10 بجکر 15 منٹ سے 10 بجکر 30 منٹ تک طلباء پرچہ کو فقط پڑھیں گے اور اس دوران میں وہ جواب کاپی میں کوئی جواب نہیں لکھیں گے۔

- Please check that this question paper contains 4 printed pages + 2 pages of maps.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 22 questions.
- **Please write down the Serial Number of the question before attempting it.**
- 15 minutes time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

جغرافیہ (علم الارض)

GEOGRAPHY (Theory)

مقررہ وقت : 3 گھنٹے

[Time allowed : 3 hours]

کل نمبر : 70

[Maximum marks : 70]

عام ہدایات :

- اس پرچہ میں کل 22 سوال ہیں۔
- سوال نمبر 1 سے 7 تک کے سوال بہت چھوٹے جواب والے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سوال 1 نمبر کا ہے۔ ان سوالوں کا جواب فی سوال 40 الفاظ سے زیادہ نہ ہو۔
- سوال نمبر 8 تا 13 تک کے سوال چھوٹے جواب والے ہیں۔ ان میں سے ہر سوال 3 نمبر کا ہے۔ ان سوالوں کا جواب فی سوال 80 سے 100 الفاظ تک ہو سکتا ہے۔

255/1/3

1

[P.T.O.]

- (iv) سوال نمبر 14 سے 20 تک کے سوال لمبے جواب والے ہیں۔ ان میں سے ہر سوال 5 نمبر کا ہے۔ ان سوالوں کا جواب فی سوال 150 الفاظ سے زیادہ نہ ہو۔
- (v) سوال نمبر 21 سے 22 تک جغرافیائی خصوصیات کو پہچاننے، محل وقوع دکھانے اور ان کے نام لکھنے سے متعلق ہیں۔ ہر ایک 5 نمبر کا ہے۔
- (vi) دنیا اور ہندوستان کے خاکے جو آپ کو پرچہ کے ساتھ دیئے گئے ہیں، انہیں اپنی جوابی کاپی کے ساتھ جوڑ کر واپس لوٹانا ضروری ہے۔
- (vii) نقشوں کے خاکے بنانے کے لیے سٹینسلوں کے استعمال کی اجازت ہے۔
- (viii) سبھی سوال لازمی ہیں۔

1. کناڈا-پار ریلوے کے ٹرنل اسٹیشنوں کے نام لکھیے۔
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
2. ہندوستان میں دیہی سڑکوں کی کثافت میں علاقائی تغیر کیوں پایا جاتا ہے؟
 1
3. ہندوستان میں پانی کی ماہیت میں پست کاری کیوں واقع ہوئی ہے؟ ایک وجہ بیان کیجیے۔
 1
4. خشک کھیتی (dryland farming) کا مطلب کیا ہے؟
 1
5. 'میٹرو پولیٹن شہر' کی تعریف بیان کیجیے۔
 1
6. ہندوستان کے شمال-جنوب گلیاروں کے ٹرنل اسٹیشنوں کے نام لکھیے۔
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$
7. ہندوستان میں قابل استعمال سطحی پانی کا لگ بھگ صرف 32 فی صدی پانی کا استعمال ہی کیوں کیا جاتا ہے؟
 1
8. ہندوستان کی دیہی اور شہری بستیوں کی کوئی تین تین خصوصیات لکھیے۔
 $1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$
9. دنیا میں پناہ گاہیں اور بندرگاہیں بین الاقوامی تجارت کی اصل گزرگاہیں کیوں کہلاتی ہیں؟ وضاحت کیجیے۔
 3
10. ہندوستان میں آبی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی تین طریقوں کا مشورہ دیجیے۔
 $3 \times 1 = 3$

11. سویز نہر کس طرح سے مشرقی اور مغربی دونوں دنیاؤں کے لیے تجارت کے داخلی دروازے کا کام کرتی ہے؟
مناسب مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔
 $3 \times 1 = 3$
12. ”ہمیں اپنے معدنی وسائل کے تحفظ کی فوری طور پر اشد ضرورت ہے۔“ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری
اقدار کی وضاحت کیجیے۔
 $3 \times 1 = 3$
13. ”قدرت مواقع فراہم کرتی ہے اور انسان ان کا استعمال کرتا ہے اور آہستہ آہستہ فطرت پر انسانی اثر دکھائی دینے لگتا
ہے اور اس پر انسانی کوششوں کا نقش چھپ جاتا ہے۔“ اس قول کا مثال کے ساتھ تجزیہ کیجیے۔
 $3 \times 1 = 3$
14. نئی صنعتی پالیسی کس طرح پیداواریت اور روزگار کے مواقع کی پائیدار افزائش کو قائم رکھنے میں کامیاب رہی ہے؟
واضح کیجیے۔
5
15. اعلیٰ ٹکنالوجی صنعت کس طرح سے صنعتی سرگرمیوں میں ایک جدید ایجاد ہے؟ مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔
 $5 \times 1 = 5$
16. ہندوستان کی بڑی ریاستوں میں انسانی ترقی کے مکانی تغیر کے لیے ذمہ دار کوئی پانچ عوامل بیان کیجیے۔
 $5 \times 1 = 5$
17. یورپ کے لوگوں نے منطقہ حارہ کے مختلف علاقوں میں واقع نوآبادیات میں پودکاری/شجرکاری کی اہم فصلوں کو کس
طرح شروع کیا؟ واضح کیجیے۔
5
18. ”نقل و حمل ہندوستان کے مختلف علاقوں کو جوڑنے اور بکھرے ہوئے لوگوں کے درمیان اتحاد (تنوع میں وحدت)
لانے میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔“ مثالوں کے ساتھ اس قول کی وضاحت کیجیے۔
 $5 \times 1 = 5$
19. آبادی کی کثافت کے کیا معنی ہیں؟ دُنیا میں آبادی کی تقسیم کو متاثر کرنے والے چار جغرافیائی عوامل بیان کیجیے۔
 $1 + 4 = 5$
20. ترقی پذیر ممالک میں دیہی بستیاں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کیسے کر رہی ہیں؟ کوئی پانچ اہم مسائل بیان کیجیے۔
 $5 \times 1 = 5$

21. دنیا کے دیئے گئے سیاسی خاکہ میں پانچ نمایاں فیچرز A، B، C، D اور E دکھائے گئے ہیں۔ نیچے دی گئی معلومات کی مدد سے انہیں پہچانئے۔ ان کے صحیح نام ان کے نشانات کے نزدیک دی گئی لائینوں پر لکھیے :

5 × 1 = 5

- (A) سب سے کم آبادی کی شرح نمو والا ملک
 (B) خانہ بدوش چراگاہی کے علاقے
 (C) براعظم - پار ریلوے کے آخری سرے کا اسٹیشن
 (D) میگا شہر
 (E) سمندری بندرگاہ

نوٹ : درج ذیل سوال صرف ناپیدنا طلباء کے لیے سوال نمبر 21 کے بدلے :

- (21.1) دنیا میں سب سے کم آبادی کی شرح نمو والا ملک کون سا ہے؟
 (21.2) یوریشیا میں سب سے مشہور خانہ بدوش چراگاہی کا علاقہ کون سا ہے؟
 (21.3) ساہیریا - پار ریلوے کے مشرقی سرے کے اسٹیشن کا نام لکھیے۔
 (21.4) ایران کے میگا شہر کا نام لکھیے۔
 (21.5) آسٹریلیا کی کسی ایک اہم سمندری بندرگاہ کا نام لکھیے۔

22. ہندوستان کے دیئے گئے سیاسی خاکے پر درج ذیل تلاش کیجیے اور ان کے نام لکھیے :

5 × 1 = 5

- (i) خط غربت کے نیچے آبادی کی سب سے زیادہ شرح والا صوبہ
 (ii) اترکھنڈ میں سافٹ ویئر ٹکنالوجی پارک
 (iii) کافی کا سب سے زیادہ پیداوار کرنے والا صوبہ
 (iv) بہار میں تیل صاف کرنے والا ایک کارخانہ
 (v) ہندوستان کا سب سے بڑا میٹرو پولیٹن شہر (2001)

نوٹ : درج ذیل سوال صرف ناپیدنا طلباء کے لیے سوال نمبر 22 کے بدلے :

- (22.1) اس ریاست کا نام لکھیے، جہاں خط غربت کے نیچے آبادی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔
 (22.2) اترکھنڈ میں واقع سافٹ ویئر ٹکنالوجی پارک کا نام لکھیے۔
 (22.3) ہندوستان میں چائے کی سب سے زیادہ پیداوار والا صوبہ کون سا ہے؟
 (22.4) بہار میں واقع تیل صاف کرنے والے کارخانے کا نام لکھیے۔
 (22.5) ہندوستان کا سب سے بڑا میٹرو پولیٹن شہر (2001) کون سا ہے؟